

مَوْمَرَّتُمْ نَعْمِ : مَرَحَصَرُ بُوَسِرِسُرَه خِرَّحَ دَسُرَعَ، بُرَضِرِسُره خِرِ مَسْرُ مَرْمِوْ: 29 خِسَوْتَ مَر 2022 تُرْسُونُ مِرْ تَرَمَّدُهُ:

می وی وی وی می می می می بر برسری مروسی

: 27 6 2 2 2 X	UBP-2022-GDL026
وكرمشوش:	2.4
كالوسوير مشويكر:	# 0 5 0 ~ 0 ج. מת כ מתמית
ג ב ב ב ה י ב ב ב " הפיע מציית "ציתיית "הציקי":	5 خبر 2024

مرور و مرمور و مرمور و سور مرد مرور و مرمور و مرمور و سور سور مرد و مرمور و مرمور و مرمور و مرمور

0 6 6 5 5 ייקיית דיק דיק ייקיית דיק ייקיית דיק	# ٥ د - بـ # ٥ توسوم بر توبره	ر 0 11 مب و قر ر سر سر ت بو	2266 02560 2366 ביתפית הי-הפגסה	و بر مشوسر	0 % C C 2 C C 2 C R	#
-	می وی بی فرط سرسر د بر بر بر فرسو بر بر فرسو بر	1-27	- אית צית ב - אית צית ב - אית צית צית - איפר ציפר של איק - איפר איפר איפר - איצר אית צית - איצר אית צית איפר איקר איקר - איצר איקר איקר איקר איקר איקר איקר איקר איק	2.0	29 پر موثور کو م	1
-	0000 4000 7000 7000 7000 7000 7000 7000	1-28	- ۲۵۵۵ ۵۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰	2.1	2023 خبر 2023	2
-	۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	1-28	-	2.2	14 ڏري شي 2023	3
-	0 0 ، ، ، 0 0 4 مرجع مر 4 مرد 2 0 0 5 مرد ع 5 مرجع	1-24	- עית דעית איין איין איין - עית דעית דעית איית איית - געית דעית איין איין - געית איין עיד דעית איית איין - געית איית איית - געית איית איית איין	2.3	18 نَّحَ مَتَرَجَّ مِدٍ 2024	4
-	کی کی ۲۰ میں ۲۰ قر مجر میر میر ۲۰ ۲۰ قرب میر ۲۰ قرب میر	1-22	- ج ה سبوری 8، 10، 11، 12، 13 ה بر 14 حَسَرَ 5 م تَرْدَدِرَةً حَمَرِ مَرْدَرُ - ج م سبور غَرْمَرْمَرْمَ	2.4	5 څې 2024	5

UBP-2022-GDL026	:27 6.00 × 2 27 6.00 × 2	4 6 77 777 6477	
2.4	ى <i>ۇ</i> بىر سەكىكر:	رَخَرَجْ تَرْبَحُوْ بِرَمَوْ بِرَبْرَوْمِ دَ	MHDC
# 0 5 0 ~ 0 ج. מתכ מתימת	ى ئوب ورى سەمىكر:		
5 خبر 2024	ג ג ב ב ג 6 י י ב ב י י 6 דער תע מצות הציעית הצוקל: א		

- (x) " (x) = (x) + (
 - (سر) "وىسەرىچ" ئۆتر تىرىد رۇس، ج ئۆترىسەر كە ئەر ۋەسەرچ رىسەر بۇ
- (مر) "سوسرد وسودناه" مَوَمَر فَسَرَوَدِ دَوَسٍ، حِ دَسَنِوْدَ 8 وَسَرَ وَدَوَرَوَهُ تَوْمَدُ وَمِعْرَ رود وَ وَمَرْمَرُهُ وَسَرَوَرٍ مَسَرَوَرٍ سَمَرَ دَوْدَ وَ وَمَرْ وَدَوْرَ وَمَرْ رود وَ وَمَرْمَرُهُ وَرَدَعُرَدُ السَّرِيْنِ سَمَرَ مَدْمَوْدَهِ مَعْرَشُ مَدْمَهُ مَعْرَ وَرُدْمَ وَ

× כריסס י גערכיתש הרג:	UBP-2022-GDL026
وَ بر مشَوْسَ:	2.4
لا فرمسو و ما مشور .	1 0 2 0 ~ 0 קיותכ עקיוקית
ג ג ב ב ג ה ה ב ב ב "" ה ב תיא מציית "ציתיית" " ""	5 خبر 2024

				5777 011 10177 5777 577 15777 1777	(~)
ר ר 0 1 2 2 2 2	۲ ری رو ۵	כם גום	م	א 0 ×0 / 10 כ כ א 20 כ ער כ ט	
ת ציית פית ה פי	۷ بر بر مشونتر نتر	גודיקיצו ב	مرکز در مر	זיייטיער אר א א א א א א א א א א א א א א א א א	

- $(\mathbf{x}) \xrightarrow{(2,2,2)}{(2,2,2)} (\mathbf{x}) \xrightarrow{(2,2,2)}{($

גער גער גער גער גער גער אייער אי אייער איי אייער איי

KHDC

- (\mathbf{x}) (\mathbf{x}) (
 - (1) עם פעפ בבעתע אניי
 - (2) مربع مربع مربع
 - (3) سطح مرسرد؛

:270 000 X	UBP-2022-GDL026
وكر معكور:	2.4
لاموسو برما مشور:	# 0 5 0 ~ 0 קימקים מקימקית
مرو و مرسر مرد ». مرو و مرسر مرسر مرسر	5 ځې 2024

- - (יע) שעיתר טירפיני אין מי 2 צר יאני בשריפיני אי פי איין (יע)
 - , ou Co ooC (1)
- (2) של פיז אל גר גריין פיז געיין געיין (ב ל אייג גרייז איין געיין געיי געייע געיגעיגעיגעין געייע געיג געיין געי
 - (3) وسريع مرد وسرم من
 - (4) مر فرو مرد (4)
 - (5) ئۇرىغ ۋىمى ئىشى (ئىرۇم ئىرۇر ئىرۇس)؛
- - (1) שיעי אינ הע האה גיי אני גיי גיי גיי איי
 - (2) د مردد ده. (2) د مرسر ما مرسر؛
 - (3) גערים לעינים ברתל לאר לא האל איני איני (3)

 - - (6) ביתו בי פרא איר הייי
 - (7) توبع مع مدير بروره:
 - (8) مرد ورمانو برمومودو.
- (ع) ج دَرَمَورُ (س)، (سر) دَمِر (مر) دَمِر صَرَّسَرَّسَرَمَر دَمِرَ حَصَرَّسَمَ مَعْمَدُ دَمِرْمَرْ مَرْجَرُ دُمَدُ (

:277 8,00 × ×	UBP-2022-GDL026
وكر مشكرين:	2.4
لا فرسو در کا مشویکر:	# 0 5 0 ~ 0 קימקים מקימקימ
ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג	5 ځې 2024

- - (1) 1276 הֿת 2507 היז בשאת בכבר בכהייל 1 שית:
 - (2) مَر 1275 مَنَحِظَمَر فَرَحْفَرَهُ مِحْدَرَةُ عِدْمَارَةُ مِنْحَدَةً 2 عِنْر؛ 501 (2)
 - (3) 350 مَر 500 مَنْ حَقَر مَرْ حَر حَدْدَ حَدْ مَرْدَ ، مِسْرَحَ مُسْرَدَ ، حَسْرَ 3 عَسْر.

- (ع) سوسرد سىمرد دوسر دوسر مودور مىم و جرم مردد مردد د ورم دسرد دور ودسر 60% كارسر مىمر مرم مرم و ورم و سوسر و كارم و در مرم و مردور د موسر و دوم و دس 60% كارسر مىم مرم مرد مردو و در قام و مودو بالمرد ما مردو . د سوسر و دستر ما ما و د در سررس كارس ما مرسر ما مرد مرد مردو مردو د مردو د مرم و 10% در و مردو ما و ما و ما در ما مردو ما مرد مرد مرد و كارم و كارم و مردو . د مرم و ما مرد و مردو مردو و ما در ما مردو ما مرد مرد مرد و كارم و كارم و مردو . د ما مردو و مردو و مردو و و ما د ما مردو مردو ما مردو مردو كارم و كارم و مردو . د مردو و و ما د مردو مردو مردو مردو كارم و كارم و مردو و و ما د مردو مردو مردو مردو كارم و كارم و كارم و مردو و مرو و مرو و مرو و مردو و مردو و مردو و مردو و مردو و مردو و مرو و م

(ح) سور مارد دود، درد مارد مارد درد در در در در مارد.

UBP-2022-GDL026	210 00,3 X 210 212	4 6 77 7773 6433	
2.4	كأبر مشكونيش	رَخَرَةِ تَحْبَرُهُو بِرَمَوْ رَدْ سَوْسَرَهِ	MHDC
# 0 × 0 ~ 0 קייתב יתינית	لاغرب ورم مشونكر:		
5 ځې 2024	ג ב ב ב ה ۵ 2 ב ב " 6 הפתא מצית ציתיית הציקי:		

(1) رودور مردور مردد سود مرد درور ورود ورود ا

- (٤) بِدَرَّ مَرْمَدَدِ صَلَى مَرْمَ مَرْمَ مَنْ مَرْمَ مَ مَرْمَ مَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مُ وَمَرَحَدٍ) مَوْدَ مَسْدَدَدِ (دَعْمَدُ مَرْمَ مُدَّمَ مَوْدَدَ فَرْدَ مَوْمَ مُرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مُرْم وَسَرَحَهُ) مَرْمَ رِحْدَ مَرْمَ مَرْمَ مَدْمَ مَوْدَد فَرْدَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرْمَ

- (م) بوگره کشرمرمترون زردی تونیس به بوگره شرکه به بوگره و بوم که مرکم کشرم برور کشرم بردی تونیس به بوگرم بروک بروک بروک و بوم که بوگر کشرم بروک بروک به برگرم بروک بروک بروک بردی بروک بروک بردی کشرم برگرم که برگرم که برگرم که برگرم برای کشر برگرم که برش برک برگرم کی گرم می برگرم که برگرم برگرم برگرم برگرم که برگرم که برش برک در برگرم کی گرم می برگرم که برگرم برگرم برگرم برگرم که برگرم برگرم برگرم در برگرم کی گرم می برگرم برگرم برگرم برگرم برگرم برگرم که برگرم برگرم در برگرم کی گرم می برگرم در برگرم برگرم می برگرم بر
- (س) دو ترموره کو محکم شرخ مو ترموه ترموه ترموه ترمور سرسر و و ترور ترموه ترمو ترموه ترموه ترموه ترموه ترموه ترموه ترموه ترموه ترموه
- (x) دِوَمَرَّمَوْدُ وَنِ صَدَّرُ سَرَوَمُ رَسِرِحْدٌ صَرَّرَتُودُ رَدَدَرَ رَدَّوَرُوسَرَوَصَ، دِوَمَرْمَدُ وَسَمَّرُنَّ رُدُورُ صَنْرُسُرِدٍ، صَنْرَسُرْمَنَ مَرْدَدُ مَعْرَسُ، رَدُورُ رَعْرَوُرُ وَنِ صَدِ سَرَوَمَ تَرْسِرِحْدَ رَعْدَوْمُنَ رَدُورُ صَنْدَرْهُ صَنْرَسُ مَرْدَدُ رَمُورُ وَ مَعْدَسَ سَرَوْمَ رُدُرَيْرِهُ، رَدُورُ رُوسُرُوسُ

	רו האיני איני איני איני איני איני איני אינ	* ۲۵۵٬۵۵ ۵۸۰؛ ۲ ۲۵۶٬۰۵۵ ۲۰۰ ۶ ۲ مشکر:	UBP-2022-GDL026 2.4
مؤيز	. \$\$00000000000000000000000000000000000	لايۇسە برىما سەمىر:	2000 - 00 קיתכ יתיידית
-		ג ב ב ב ג ב א ייי ה ייי ה ייי ה ב ת מ ז ג ייי א ייי ה ייי ג יי	5 ځې 2024

میں برین میں (مرقو، مرضر، مرمر) مرمور مریز میں

- - - (1) مَعْرُومُومُ عَمْصُورُ:
 - (2) بروغ درمد:
 - (3) 8 פית פיצי יישי צע הערי
- (4) 25 جَعْدُهُ دَمِيْرُ (غُمُسْمَدُم) سَوَيْ دَعْدُمْ مِرْقُقُ الْحُسْمِيْرُ مَرْدٌ مِرْمَعْ مُعْدِ؛ (غَرْمَوْتُر (3)
- (5) געלעצע געלע אייגע גער גער געלע שאר שאיייטצע געריא שאיייטצע (5) געלע גער געריא אייגע גער גער געריא געריא גערייא (5)
- (6) (6) (6) (6) (6) (6)
 - (7) دَمِ بِرَرْسَرْمَا عُرْ وَمِدْعَدٍ؛
 - (8) ھوراسر.

א כר כי יי גערכית ש הרג: גער	UBP-2022-GDL026
وكرمشة يتر:	2.4
كالمؤسب وركا ستومكر:	# 0 5 0 ~ 0 קינתכ עתנית
ג ד ד ד ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג	5 ځېر 2024

مَرْدَحُوْ نُوْمَوَدَ بِوَرَوْرِدُ سُوسَرَدٍ سُمَرَبُرُهُوْدَرٍ بِرِوْمَرْهُوْدُ مُرْمَوْدُ

، ، ، چرج می سوچ ه م ، »	، ، د ۵ ، ۵ ، ۵ ۵ ۵ قرر می سوچ ه ۷	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	د، ×د ه ۵۶۵ ۵۰ د بر ۱
			(デビラング) (メビラング)
1 درمج نر	1 دغم	1 دغير	500 بَرْعَرِ 500 بَرْعَر
) א 17 ב 0 דת דג מכוית			ר 5 כ 7 ציקע צ
, é , 3 , , , , 0 ,	*é > 3	1 چۇنم	500 م ^{رو} و رود
ר ר צ מכיית			

- - (\mathbf{w})
- (*) دِجْ مَرْهُدَد مَرْ مَرْدَمُ خَسَرَة سَعْطَ مَنَ دَسْمَنَ سَمَعَ دِيرَ قَرْمِ رِحْ مَرْ سَرْ 0.45 جِ عَمَرُ سَرَ مَرْ عَرْ مَرْمَنَ مَدْ مَدْ مَعْ مَنْ مَرْمَعْ مَنْ مَدْمَعْ مَدْ مَعْ مَا مَدْ مَعْ مَدْمَعْ مَدْمَعْ مَ دِمْ مَرْ مَرْ عَرْ مَرْمَنْ مَدْمَوْ عَرْسَرْهُ .
- - دِوْمُرْهُدُ مُسْجُوسٌ 12. (م) دِوْمُرْهُ مُعْرَضُ مُسْرَدُ مُسْجُوسُ 25 (وَسُرْسَعُوسُ) وَعَمَرُهُ.

אר כיקם הארב: גער בייקש הארב:	UBP-2022-GDL026
ۇ برىشۇنىز:	2.4
لائوسو بربا لائوسو بربا مشویتر:	1 0 2 0 ~ 0 קייעקב יעינית
ג ב ב ב ג ב	5 ځې 2024

- - (ر) بدر مردد در مرد در مرد مرد مار ما مرد (مرد) ومرد ورور .

KHDC

- (u) بِدَىمَمَى بَمَ بُسُوسِ 16.5 دِعَمَرُوْمَ بُسُوَّسَرَةَ، بِرِقْعَة بِرَدَسَرُقَى بَدُوْ. بَدِم بِدَمَمْهُ بَدِبُ فِرْفَعْ صَرَبُعَ سَرَةً مَ مُوَعْ خَصَصَرَةً خَصَصَرَةً دَمَ مَعْمَةً دَمَ مَرْمَعُ مَرْمَ (مَرْسُوْفَ) 29 دِعَ مَرْدَفْهُ بُسُوْدَدْ شَوْدَى شَرَّصَرَهُوْ.
- $(\kappa) \qquad \overset{\circ}{\scriptstyle c} \overset{\circ}{\scriptstyle c$

- (م) جَدَّمَّهُوْ 8 مَسَرُ وَسُرُو وِمُرْدَدٍ سَوْءِ دَّخَرَدُ مِرْضُعْ دَ سَمِسْرَمُوَ مُرَّصَّ مَرْضَعَ 15 دَعَرِ عَمَرُوْمُ مَسْرَقُ مَعْرَفُ مَعْرَفُ مَرْمَوْ دَمَرِ مِرْفَعْ دَ سَمِسْرَمُوْدُ دَمَّ سَمْعُ دَدَمَ مِرْمُ رَدَمَرُمُوْمُ (مَرْوَسَعُرْفُ) 29 جِعَمَرُمُومَ مُسْعُوْ مُعْرَدُهُ الْمُوَعَدَ مُرْمُومُ مُ
- (م) $\frac{d^2}{d^2} \left(\hat{z}_{x} \hat{c}_{x} \hat{d}_{y} \hat{z}_{y} \hat{c}_{y} \hat{c}_{x} \hat{c}_{y} \hat{c}_{y} \hat{c}_{x} \hat{c}_{y} \hat{c}_{y} \hat{c}_{x} \hat{c}_{y} \hat{c}_{y}$
- (م) دِ دَرَّهُدُ (م) دَمِ مَرَّسْ عَرَفَرْ عَرْفَرْ مِوْقَ خَ مَسْ عَرْدَدْ دَ مَسْعَرَ بَرْعَ دَسْرَةُ مَسْعَرَ بَوْدَعْ خَ مُوَعُوْمِ شُ دَمِدْ دَسْ 29 دِعَ مَرْهُ مُسْمَعْ مُرْمَرْ دِ عَمَرْ عَرْضَ مُرْمَدُ دَمَوْرَ مَوْدَ مُوَمَرَ مُ غَرْدُ دُسْمَ مُرْدَ دُسْعَدْ دُسْعَدْ مُسْعَدْ مُسْعَدْ مُعْدَدْ مُعْدَدْ مُعْدَدْ مُعْدَدْ مُعْدَدْ مُعْدَدْ

a	ב כ ג ۵۵ ה ב עת כ יית ש ב י	UBP-2022-GDL026	4 6 77 777 6433	
	وكر مشكرين:	2.4	رَخَرُجُ وَحَرَجُورَ وَمَرَوَّرَةُ سَوْسَرَدٍ	MHDC
>>> > <>>> <i>></i>	كالمؤسو بوكما مشونكر:	# 0 5 0 - 0 קיית ביתי מקיית		
	ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג	5 ځېر 2024		

- - (مر) د د دود کرده را به مود کرموه در مرم مرم روده
- (2) غَىرُدَد بِرَّرْنَى مَوْسِ مِوْقُ مَدِ سِنِ دَّخِرَمُو مَّ مَرِرَّهُ مَ مِرْمَرُ مَسَرَّةُ مَرْسِرُ (2) مَرْرَدُ فَوْحُ 50% مَرْمُوْنَ خَذْرَهُ مَنْ سَرَّحُو مَنْهُ مَدِ غَيْرُدُ فَوْجُ مَعْرِرْدَ دِرِ مَرْرَبُ فَوْجُ مَرْمَوْنَ (غَرْمُوْمُ مَا مَدْمَوْ مَرْمَوْ مَنْهُ مَدْمَوْ غَيْرَدُو (غَرْمُوْمُ (غَرْمُوْ 4)

- (مر) 8 كومتر توشرد ترقرد ترمد صوف (غ مرسم) رش رمرونتر وروع رمد مرمد مند مندر مرد مردد مردد.

- (٧) جۇڭىمەد 8 كامىر ئۇمۇر بولۇ بەرىنىكۈمىر، ئە ئۇمۇر بولۇ سەيدى ئەر بولۇھ خاسەمەر تەرىخە تى تۇ ئەمۇرىدى ئۇ ئۇنىر ساماي ئۇر ھاماتىرىس ئىمۇرى 50% ئەكى.

<i>«</i> > >	4 6 7 7 7 7 7 6 4 7 7	ב כ כ ۵۵ ב עת כ יית ש ב יין ה כ יית ש	UBP-2022-GDL026
۲HD ارتود	رَخَرَبُو نَوْبَرَهُ دَرَبَرُهُ بِرَمَةُ بِوَالْأَوْرِيْ سَوْسَرَبِ	وكر مشوكين:	2.4
	۵ - ۲ - ۵ - ۵ - ۵ - ۵ - ۵ - ۵ -	كالمؤسو بوكما مشونكر:	# 0 5 0 ~ 0 קיטתכיטקיטק
		ג ג ג ג ג ג הפקטיתית הציקיי:	5 בת 2024

- (\mathbf{v}) $\boldsymbol{\xi}_{\mathbf{v}}^{\mathbf{x}} \boldsymbol{\xi}_{\mathbf{v}}^{\mathbf{x}} \boldsymbol{\xi}_{\mathbf{v}}^{\mathbf{x}}} \boldsymbol{\xi}_{\mathbf{v}}^{\mathbf{x}} \boldsymbol$
- (س) دِوْمَوْدُ مَمْدِسْ بَرَمَعْ دَمَرَ دَمْدَوْ وَدَرَ عَمَرَ بَعْرَ وَدِوَ قَرْدَدِ وَمَرْ وَبَرَعَ بَرَعَ سَرَعَ دَمَرَ وَمَرْدَى . سِسْعَة مَرَدُعْمَرَ دَدَ مَرْوَسُورُ (وَتَرَوْعَلَى مَرَمَ سَعْدَ مَرْدَعَ مَعْمَر) (رَرَرَعَشَرُهُ. دَتِرِ بَرْمَاشْ قَدَدَتْ رَدْمَ مَرْضَعْ مَوْسِعَ وَمَاسَة مَوْسَ وَمَاسَة .
- (مر) دِوْمَرْهُدَدٍ مَسْرَدُ دَعِ وَرِحٌ بَرْمَرِ سُرَدَ دَعْرِدٌ رَسْرَسُرُقُسٍ وَرَدَةَ دَعَسَرَهُرُهُ دَعَر مَدْسُرُمَ مَرْ وَرَسُوسُ فَرَسُورُ وَعَرَضَ وَوَرَسِرَ وَوَدَّوَ دَعْرَرُونَ

× ×	:200 2002 2005 2002	UBP-2022-GDL026
é	ى <i>ۇ</i> بىر سەكىكر:	2.4
0	ى بوسو دې مشونېز:	1 0 2 0 ~ 0 קיותכ עקיוקית
'n	ת ב ב ב ת ה ב ב א ה ה ת ב ת א א א א א א א א א א א א א א	5 ځې 2024

- (٤) سېرىنى كرىم ئېمۇچ كىكى كىكى كىكى ئىكى ئىكى ئىكى ئىكى كەركىكى كىكى كەركىكى كەركىكى كەركىكى كەركىكى كەركىكى كە رىكى ئىكى كىكى كەركى ك رىكى ئىكى ئىكى ئىكى ئىكى كەركى كە
 - (1) سەرىنۇ بۇمرىىىرد:

KHDC

- $rac{1}{2} \chi^{2} \chi^$
 - ر محمد ویمزیر دیکر در مرموم و بر برمره د.
- $-\tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta}\tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta}\tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta} \quad \tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta}\tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta} \quad \tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta}\tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta}\tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta} \quad \tilde{\chi}_{\chi}^{\zeta}\tilde{\chi}\chi}\chi^{\zeta}\tilde{\chi}\chi}\chi^{\chi$
- (د) دِ دَمَعْرَدُ (د) دُ (2) دَمِ دِ رَسُ مَعْرَسْتَرَ دَمِ مِعْرَدَهُ مَ مَوَتَعَرَ مَعَ مَعْ تَعْرَدُومُ رَحْمَدُ دَعْرَدُمُ مَعْرَدُمُ مَعْرَدُهُ مَعْرَدُومُ مَعْرَدُومُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مُعْدَمُ رَحْمَدُ مُعْرَدُمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مَوْمَ مُعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مُعْدَمُ مُوضَعَعْ مُعْدَمُ مُومُ مُعْدَمُ مُوضَعُ مُعْدَمُ مُومُ مُعْدَمُ مُومُ مُعْدَمُ مُومُ مُعْدَمُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُعْدَمُ مُومُ مُعْدَمُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُعْدُمُ مُومُ مُعْدُمُ مُومُ مُ
- (2) مىسەرسوھە مەردىش ئىرەش ھەرە مېرىدىرىدەر رومى دىرە يەر 2.2 رچىدە مورىم ررچەر رىرىش ئىرۇش ھەرە (ھە سۆچ ئوھ ئوھۇر رومۇ)

4 6 77 777 6433	ב כ כ ۵ 0 יש ב עת כ יית ש הת ב ב י	UBP-2022-GDL026
رَخَرَجْ بْجَمْرَهُ وَالْمُوْحَرِةُ سَوْسَرْهِ	وكر مشوكين:	2.4
	كالمؤسو بوكما مشونكر:	12 0 0 0 0 0 קיותר יוקיות
	ر د د د ره ، د د ۵ ه. رو و ما ترسر تر مرسر تر ترز:	5 בת 2024

- (r) \tilde{c} \tilde{c}
- (س) ج جد قرى (٦) كَدِقَ دَقَرَ دَقَرَ دَقَرَ مَعْدَوَدِ عَرَوَتُ عَمَدِ قَرْمَعُ عَمَدَ عَدَدَ مَعْرَدِهِ
- - העציה מינית האר (-) הפארים בבבים העציה מינית היתר השובית 1.2 בשאיליר.
- (م) دِ دَّدَوْمَ دُرْدُ (م) دَبِ دُرْسُ صَّرَّسْرَنْسُرَوْمِ مِرْدَى دَدَوْمَ دَدْوَمَ بِسَرَوْمَ بَعْرَوْمُ دَدْ دَمِسْ 8.0 دِعَمَرُ ئُوسْسَدَ ئَرَعِقْسَدَهُ، سَرْحَمَ عِوْسُ نُوسِ دُسْ 2 دِعَمَرُدُ دُسْعَرِسْرُدُ ئُرْسُسَدَ ئُرِعِدْسَدَى دِدْمَرْشَ مِسْرَقَهُ مَّرْصَدُ مِسْرَوْسُ دَعَ عَدْدُ نُسْعَرِسْ 2 دِعْرَسُوْرُ دُسْعُوْدُسْ دَسْرَصْدَهُ.
- (1) ئۇرۇر زىرىر ئىرىوىرى ئىرەۋىم ئونى زىرىرىرىرۇ بىر ئە ئەرۇس زىسى ئەر دۇرى (1)ئەرچىغىرى يەر 0.125 چىغى زىرىرىرى ئەن ھى ئەر (سەيرى بەر) ئىرىرى ئىرىرى.

2 2 2 0 0 0 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	UBP-2022-GDL026
وَبرستَهُسٌ:	2.4
ى ئۇسە برىڭا سۇمىكر:	# 0 5 0 ~ 0 קימקים מקימקית
ر د د د ره ، د د ۳ ه. در و مرسر مربر مربر	5 خبر 2024

- (1) ئەترە ئەس ئەترۇڭ ئەتتەرىش ئەترە تەخ بەڭ ئەترە ئەترەش ئەترىش (1) رىرىش:

KHDC

- (س) مَرْسِرْسَ سَسْرَعَوْسَ سَسْرَعُو مَرْجَوَ 400 كَ حَدَّدَهِ "الْصَحْقَ مُعْدَدُ سَمَعَ (مَعْدَدُ سَمَعُ (100 شَرْدُ) مَرْجَدُ مَعْرَدُ مَرْسِرْسَ حَدَّرُ مَرْجُو مَرْجُو مَحْدَدُ عَدَرُ مَعْدَدُ مَدْدُ دَعْدَ مِعْدَ (100مَرْجُو مَعْدَدُ مَرْجُو مَرْجُو مَعْدَدُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَ مَعْدَمُ مَعْدَ مَعْدَدُ مَدْدُ مَعْدَمُ مَ مَرْجُو مَعْدَمُ مُعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مَعْدَمُ مُعْدَمُ مُولُولُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُولُولُ مُعْدَمُ مُولُولُ مُعْدَمُ مُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدَمُ مُولُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدَمُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُونُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُعْدُونُ مُعْدُولُ مُعْدُ مُولُ مُعْدُولُ مُعْدُ مُولُ مُعْدُ مُولُ مُعْدُ مُولُ مُعْدُ مُ مُولُ مُعْدُولُ مُعْدُولُ مُولُ مُ مُولُ مُولُ مُولُ مُعْدُ مُ مُولُ مُ مُعْدُ مُ مُولُ مُ مُولُ مُعْدُ مُ مُ مُولُ مُ مُولُ مُولُ مُ مُ مُ مُعْمُ مُولُ مُعْدُ مُعُولُ مُعْدُولُ مُعْدُ مُ مُولُ مُولُ مُ مُولُ مُولُ مُولُ مُ مُولُ مُ مُولُ مُ م
- (م) مَرْسِرْنَى مَاسْرَمَادَى مَاسْرَةَ مَعْدِقَى 40% ى مَدْمَدِي مِعْدِقَى تَرْسَرْ مَاسْرَمَادَى ئائىرىدى كە مەرمار كالىرىمار كالىرىمۇ كەشە تىرى تىرىدى تىرى تەرىدى.
- (*) $(2^{2})^{2} = 2^{2} + 2$

оо, 5 × 2 члече ,	UBP-2022-GDL026
ۇبرىشۇنىژ:	2.4
م موسود م	1 0 2 0 1 0 קימקב יתניתית
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5 خبر 2024


בביים ביקיק ביקיקים מצרת במציד בוצפתם ההויעתו	KHD
י 0 0 י י י י 0 0 0 0 י י י י י י י	

С

- *بَحَوِ*َوْمَرْدُ بَرِيسَمَّمَنْ 19. (؍) سَمِنَّرَةٍ سَمَرَدُوْمَرْ وَرَنَّرُوَرِقُ مِسْمَنْ دَّرِ بِرَقَرَ بِرَقْرَمَوْمَ رَمَّرَ مِنْ مَنْ مَنْ مَرْدَدُ بَرَدَّ مَرْدَ مَرْدَ مَرْدَ مَرْدَ مَرْدَ مَرْدَ مَرْدَ مُرْدَى مَنْ مَرْدَدُوْرُ مَاسَلَ مَنْ مَرْسَمَ مَرْدُ مَرْدَوْمَ مَنْ مَنْ مَاسَ مَرْدَمُ مَرْدُوْمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَاسَ مَرْدَ مَدْوَمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَاسَ مَدْمَ مُوْمَ مَاسَ مَرْدَدُ مُرْدَعُ مُرْمَ مُرْدُ مُرْدُوْمُ مُوْمَ مَاسَ مَرْدَ مُرْدُ مُرْدُ مُوْمَ مُوْمَ مُوْمَ مُوْمَ مَرْدُوْمُ مُوْمَ مُوْمَ مُوْمَ مُوْمَ مُوْمَ مُوْمَ مَنْ مَاسَ مَرْدَرُ مَرْدَدُ مُوْمَ مُ

- ۇرىش ئىسىرى 20. (~) ئىشرى بورىمەدە ئوس ئۇرىش ئىسىرى ئۇشرىش بىرى ئىس بورىگە ئەھ ئەتى ئەر بۇرى ئۇرىش ئىسىرى 20. (~) ئىشرى بورى ئەھەدە ئوس ئۇرىش ئىس بىرى بىر بىرى . ئۇرىش بىرى بىر بىرى .

× כניסי ג געת תמש הרגי	UBP-2022-GDL026
وكر مشوكر:	2.4
كالمؤسب بوكا مشاملكن	1 0 2 0 - 0 קיותכ עציותית
ת ב ב ב ה ۵ . ב ב ייג ۵ ת ב ת א מית האיקית:	5 خبر 2024




ر د ر د تع تر *کر* ا




DRAWING: INDUSTRIAL ZONE - HULHUMALÉ

UBP-2022-GDL026	× כיסס ייד זעת כיית ש התיז:	4 6 77 7773 6433	
2.4	كوكر مشكوكي:	רצרת געפר גרופיג מייעה יא אין געפר ג	KHDC
אים בים הים היותב יותות א	ى ئۇسە بىرى سەمىر: بىرىنى بىرى		
5 خبر 2024	ر د د د ۵ ، د د ۴ ۵ رو بر مرسر تو رسر مو بر ز:		

ر د ر د ت*ع تر ح*ر 2




Plot areas 500SQFT and less



Plot areas more than 500SQFT


UBP-2022-GDL026	:211 0013 X 2110 0013 X	4 6 7 7 7 7 7 8 4 3 3	
2.4	وكرمشكونين المراجع	א צרת דע מצר דארפר ב משיעות אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	HDC
2000 - 00 קיית ביתיית ית	لا مؤسو در کا مقام شر:	///01 / 100 / 100 / 100 ל 1 האינגר אינגאאינגאאינגאאינגאאינגאאינגאינגאינגאינ	
5 خبر 2024	ג ג ד ד ג ד ג ד ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג		

، در د م حر حر 3



(4))	4 6 7 7 7 7 7 6 4 3 3	:270 000 × 2 2700 × 2	UBP-2022-GDL026
۲H ترتوفو	رَخْرَقُو تَوْبَرَهُ وَبِرَهُ وَبِرَهُ وَرِدْ سَوْسَرَهِ	ۇ برىسۇنىڭر:	2.4
		لا فرسو در ما مشور .	* 0 5 0 - 0 جرمتری مزمر
		مرو فر مر مر مر مر مر مر مر	5 בת 2024

ر د ر د تع تر *ط*ر 4




TERRACE LEVEL PLAN SCALE: N.T.S

COVERED AREA SHOULD NOT BE MORE THAN 15SQM. 50% COVERED AREA

* 0.45M OVERHANG FOR STAIR & LIFT AREA CAN BE ALLOWED FROM THE WALL AS SHOWN IN THE DIAGRAM

<i>"</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/ (// ///) (//)	א ב ה ה ה ה אין גער ביית ש הרא ב	UBP-2022-GDL026
۲۰۰٬ ۲۹۲۵	رَخَرَةِ وَبَرْهُدُ وَمَرْهُ سَوْسَرَهِ	وكر مشكر شر	2.4
		م نوب و بر ^م شونگر: رو	2000 מ קינת בינייתית
		ر د د د ۵ ، د د ۵ ه. رو و ما ترسر تر مرسر تر تر ز	5 בת 2024

ر د ر د م تر *و ب*ر 5



TYPICAL FLOOR PLAN SCALE: N.T.S

- VOIDS SHOULD HAVE A MINIMUM OF THE DIMENSIONS GIVEN ABOVE TO BE USED FOR VENTILATION.

DRAWING : VOIDS

ž	2000 × 20000 × 200000 × 200000000	UBP-2022-GDL026
é	ۇ برىشۇنىر:	2.4
01	لا مؤسو برما مشوش :	# 0 2 0 - 0 קימקים שתימתית
1	ת ב ב ב ה י ב ב איים : ת ב ת מ ז ת ית האייל :	5 ځې 2024

ر د ر د م ترحر

CATEGORY	MINIMUM PAR	·····		
	MINIMUM PARKING (BASED ON UNIT/GFA)			
	HV	1 Lorry (Loading/Unloading) for the first 2500 SQM GFA		
		and 1 parking slot for every subsequent 5000 SQM GFA		
WAREHOUSE	MOTORCYCLE	1 Motorbike per every 200 SQM		
	BICYCLE	10 Bicycle Parking spaces		
	CAR	-		
	MOTORCYCLE	1 Motorbike parking space per every 100 SQM GFA		
	HV	1 Lorry (Loading/Unloading) for the first 2500 SQM GFA		
FACTORIES		and 1 parking slot for every subsequent 5000 SQM GFA		
	BICYCLE	10 Bicycle Parking spaces		
	CAR	1 Car parking space for every 5000 sqm GFA		
RETAIL SHOPS/	MOTORCYCLE	1 Motorbike parking space per every 100 SQM GFA		
DEPARTMENT STORES	HV	1 Loading/Unloading space per every 5000 SQM		
SHOWROOM	BICYCLE	10 Bicycle Parking spaces		
	CAR	1 Car parking space for every 250 sqm GFA		
	MOTORCYCLE	1 Motorbike parking space per every 250 SQM GFA		
	HV	1 Lorry (Loading/Unloading) for the first 5000 SQM GFA		
OFFICE		and additional loading and unloading space for every		
UFFICE		subsequent 10,000 SQM GFA		
	BICYCLE	10 Bicycle Parking spaces		
	CAR	1 Car parking space for every 250 sqm GFA		
HV = HEAVY VEHICLE				
ECS = EQUIVALENT CAR SPACE GFA = GROSS FLOOR AREA				